

ہے کتاب کی پذیرائی اور ثقہت میں اضافے کا باعث ہو گا۔ کتاب کی جلد بندی مصبوط اور طباعت و اشاعت درمیابنے درجے کی ہے۔

خومیر (اردو)، مترجم: علی الرحمن فاروقی، صفحات: ۱۳۵۔

یہ علم انجو کی مشہور و معروف اور داخل درس کتاب "خومیر" کا اردو ترجمہ ہے، جو مرد رسہ ارشاد العلوم یونیورسٹی جو نا مارکیٹ کراچی کے مدرس مفتی علی الرحمن فاروقی کا مرتب کردہ ہے، تالش پر اس کا تعارف ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے: "خومیر کا بامحاورہ اردو ترجمہ، بغیر ضرورت حاشیہ کا اہتمام، مسئلہ مقامات کی مختصر تشریح، عنوانات و تعریفات کا اضافہ، قدیم مثالوں کی جگہ جدید مثالیں"۔

یہ ترجمہ کارڈ تالش کے ساتھ شائع ہوا ہے، اور اس کی اشاعت کا اہتمام ادارہ اعلیٰ والارشد کراچی نے کیا ہے۔

الفوائد الامانیة في تسهيل النحو، مؤلف: مولانا مامن اللہ، ناشر: شعبہ نشر داشاعت، مدرسہ

عربیہ دارالعلوم ربانیہ کوئٹہ، صفحات: ۱۳۵، قیمت: ۵۰ روپے۔

خومیر کا یہ اردو ترجمہ سوال و جواب کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ عربی جملوں کی تراکیب بھی ذکر کی گئی ہیں، ابتداء میں ایک مقدمہ شامل کیا گیا ہے، جس میں علم خوکی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور واضح کے متعلق گنتگو کی گئی ہے، سوال و جواب کا یہ انداز مبتدی طلبہ کے لئے انتہائی سہل اور مفید ہے۔ البتہ اردو ترجمہ کی زبان ناقص ہے، کپوزنگ کی غلطیاں بھی موجود ہیں، بعض جگہ عربی جملوں کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، چنانچہ صفحہ نمبر 94 میں عبارت ہے:

"خالد مُخْبِرُ ابْنَهُ عُمْرًا فَاضْلًا" ، "خالد خبر دیا گیا ہے کہ اس کا بینا عمر و فاضل ہے"۔

آگے اس جملے کی ترکیب کی گئی ہے: "خالد" مبتدا، "مُخْبِرٌ" اسم مفعول معتمد "خالد" مبتدا پر۔ "ابن" مضاف، "ه" ضمیر مضاف الیہ۔ مضاف، مضاف الیہ مل کر مفعول لم سم فاعلہ ہوا اسم مفعول کا۔ عمر و مفعول ثانی۔ فاضل مفعول ثالث۔

ترجمہ میں "خالد" مبتدا کی طرف ضمیر راجح کر کے اس کو نائب فاعل بنایا گیا ہے جب کہ ترکیب میں "ابنہ" کو نائب فاعل کہا گیا ہے، اسی طرح ترجمہ کے مطابق، "عمر و" ، "ابنہ" سے بدلتا ہے اور ترکیب میں "عمر و" کو مفعول ثانی قرار دیا گیا ہے، ترکیب نیچے صحیح کی گئی ہے لیکن اور ترجمہ غلط کیا گیا ہے، ترجمے کی غلطی کی وجہ سے "ابنہ" کو منصوب پڑھ کر اس پر اعراب بھی غلط لگایا گیا ہے۔ امید ہے آئندہ ایڈیشن میں اس طرح کے امور کی اصلاح کرو دی جائے گی۔

☆☆.....☆☆